



# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED



FCML/1503/  
October 5, 2021

The General Manager  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange  
Road Karachi.

**Subject: Notice of 56<sup>th</sup> Annual General Meeting - Fazal Cloth Mills Limited**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting to be held on **October 27, 2021** for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

**Asad Mustafa**  
(Company Secretary)  
Encl: As above.

---

Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan.

Ph: +92 061 4579001-7, +92-61-4782796, +92-61-4573339-8, Fax: +92-061-4541832

E-mail: [info@fazalcloth.com](mailto:info@fazalcloth.com), Website: [www.fazalcloth.com](http://www.fazalcloth.com)

Registered Office: 69/7, Abid Majeed Road, Survey # 248/7, Lahore Cantt, Ph: +92 042-36684909



# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED



## NOTICE OF 56<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **56<sup>th</sup> Annual General Meeting** of the Shareholders of the Company **M/S. FAZAL CLOTH MILLS LIMITED** (“the Company”) will be held on October 27, 2021 at 11:00 a.m. at FG Head Office, E/110, Khayaban-e-Jinnah, Defence Chowk, LAHORE to transact the following business:

### A- ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on November 26, 2020.
2. To receive, consider and adopt the Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2021 together with the Auditors’ and Director’s Report thereon.
3. To consider and approve payment of final Cash Dividend for the year ended June 30, 2021 at the rate of Rs.10 (Rupees Ten Only) per Ordinary Share each (i-e 100%), (2020: Rs. NIL) as recommended by the Board of Directors. This final cash dividend will be in addition to interim cash dividend of Rs 20 per ordinary share (i-e 200%) already paid.
4. To appoint External Auditors of the Company for the year Ending June 30, 2022 and fix their remuneration. M/s. KPMG Taseer Hadi& CO., Chartered Accountants, Lahore, External Auditors of the Company retires and being eligible offers themselves for re-appointment.
5. To transact any other business with the permission of the Chairman.

### B- SPECIAL BUSINESS

1. **To ratify and approve the transactions carried out by the Company with related parties as disclosed in Financial Statements for the year ended June 30, 2021 and to pass the following Resolution(s) with or without modification(s):**

“**Resolved that** the related party transactions carried out by the Company during the year as disclosed in Note 45 of the financial statement for the year ended June 30, 2021 be and are hereby ratified and approved and confirmed.”

2. **To approve transactions with related parties and to authorize the Board of Directors of the Company to carry out such related party transactions from time to time, irrespective of the composition of the Board of Directors and to pass the following Resolution(s) with or without modification(s);**

“**RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to approve the transactions to be conducted with related parties on case to case basis for the financial year ending June 30, 2022.





# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED



“RESOLVED FURTHER THAT these transaction approved by the board shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next annual general meeting for their formal ratification approval where required”.

3. To consider and if deemed fit, to pass the following resolution as special resolutions with or without modification(s) in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 to change the terms and conditions attached to the investment made / to be made by Fazal Cloth Mills Limited in the form of loans in Fatima Transmission Company Ltd, an associated company.

“RESOLVED THAT approval of members of Fazal Cloth Mills Limited (the “Company”) be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 to extend the validity of special resolutions dated October 26, 2019 for making investments to be made in the form of loan in Fatima Transmission Company Limited, an associated undertaking till October 15, 2024.

**RESOLVED FURTHER THAT** approval of members of Fazal Cloth Mills Limited (the “Company”) be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 to revise the repayment schedule for investment in the form of loan made / to be made in Fatima Transmission Company Limited under the authority of special resolution passed by the shareholders on October 26, 2019 so that the loan is repaid in four (4) annual installments on 31<sup>st</sup> December, 2026, 31<sup>st</sup> December, 2027, 31<sup>st</sup> December, 2028 and 31<sup>st</sup> December, 2029.


**RESOLVED FURTHER THAT** the markup on loans be paid in four (4) annual installments on 31<sup>st</sup> December, 2026, 31<sup>st</sup> December, 2027, 31<sup>st</sup> December, 2028 and 31<sup>st</sup> December, 2029 along with principal repayment and the loan shall be secured against personal guarantees of directors of FTCL.

**RESOLVED FURTHER THAT** there shall be no change in the other terms and conditions of the above investment as approved by the special resolution dated October 26, 2019.

**RESOLVED FURTHER** that the Chief Executive, Chief Financial Officer and Company Secretary be and are hereby singly empowered and authorized to do all acts, matters, deeds and things, take any or all necessary actions including signing and execution of agreement(s) with the associated company and to complete all legal formalities including filing of documents as may be necessary or incidental or expedient for the purpose of implementing the aforesaid resolutions.

A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 to the aforesaid Special Businesses to be transacted at the said Annual General Meeting is attached.

BY ORDER OF THE BOARD

  
Asad Mustafa  
Company Secretary

MULTAN.

Dated: October 05, 2021.



## NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2021 to October 27, 2021 (both days inclusive). Physical transfers / CDS Transaction IDs received at the Company's Share Registrar, M/s. Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, at the close of business on October 20, 2021 will be considered in time for the purpose of above entitlement and to determine voting rights of the shareholders for attending the meeting.
2. A member eligible to attend, speak and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy and CDC shareholders shall attach an attested copy of his/her Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport, Account & participant's ID number to prove identity. Proxies, in order to be effective, must reach at the Company's Registered Office not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. Representatives of corporate members must bring the BoD resolution and / or power of attorney and specimen signature of nominee.
3. **Dissemination of Annual Audited Accounts and Notice of Annual General Meeting** The Company shall place the financial statements and reports on the Company's website: [www.fazalcloth.com](http://www.fazalcloth.com) at least twenty one (21) days prior to the date of the Annual General Meeting. Further, this is to inform that in accordance with SRO 470(I)/2016 dated 31 May 2016, through which SECP has allowed companies to circulate the annual audited accounts to its members through CD/ DVD/USB instead of transmitting the hard copies at their registered addresses. Accordingly, Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2021 is dispatched to the shareholders through CD. However, if a shareholder requests for a hard copy of Annual Accounts, the same shall be provided free of cost within seven days of receipt of such request. Further, in terms of SRO No 787(I)/2014 dated September 8, 2014, shareholders can also opt to obtain annual balance sheet and profit and loss account, auditors' report and directors' report etc. along with the Notice of the Annual General Meeting through email. For this purpose, we hereby give you the opportunity to send us your written request along with your valid email ID to provide you the same at your valid email ID. For convenience of shareholders, a Standard Request Form for provision of Annual Accounts has also been made available on the Company's website [www.fazalcloth.com](http://www.fazalcloth.com).
4. Shareholders are requested to notify / submit the following information & documents, in case of book entry securities in CDS to their respective CDS participants and in case of physical shares to our Share Registrar, if not earlier provided / notified:-
  - a. Change in their addresses;
  - b. In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividends) Regulation 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into their bank account designated by the entitled shareholders instead of issuing physical dividend warrants. Therefore, shareholders are requested to provide the particulars relating to name, folio number, bank account number, IBAN Number, title of account and complete mailing address of the bank directly to the Company's Share Registrar in case of physical shareholders and directly to the relevant Participant / CDC Investor Account Service in case of maintaining shareholding under Central Depository System (CDS) for future dividends, if any.



- c. The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Numbers (NTNs) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to the Company or its Share Registrar.
- d. Pursuant to requirement of Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001, the 'Filer' & 'Non-Filer' shareholders will pay tax on dividend income @15% and 30% respectively. Therefore, please ensure that their name(s) have been entered into Active Taxpayers List (ATL) provided on website [www.fbr.gov.pk](http://www.fbr.gov.pk) of the Federal Board of Revenue (FBR), before the date of book closure i.e. **October 20, 2021**.
- e. In case of joint account, please intimate proportion of shareholding of each account holder along with their individual status on the ATL.
- f. For any query / information, the shareholders may contact with the Company Secretary at the above Head Office and / or our Share Registrar, Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore, Ph. Nos. (042) 36283096-97.
- g. **Consent for Video Conference Facility** Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2017, the shareholders residing in a city and holding at least 10% of the total paid up share capital may demand the Company to provide the facility of video link for participating in the meeting. The demand for video-link facility shall be received by the Share Registrar at the address given hereinabove at least seven (07) days prior to the date of the meeting as per the following format.
- I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ being a member of Fazal Cloth Mills Limited holder of \_\_\_\_\_ Ordinary share(s) as per Registered Folio No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.
- h. **Zakat Declaration**  
The members of the Company are required to submit Declaration for Zakat exemption in terms of Zakat and Usher Ordinance, 1980.
- i. **E-Voting**  
Shareholders can exercise their right to demand a poll subject meeting requirements of section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of companies (Postal Ballot) Regulations 2018
- j. **Unclaimed Dividend & Bonus Shares**  
Shareholders, who by any reasons, could not claim their dividend or bonus shares or did not collect their physical shares, if any, are advised to contact our share registrar M/s. Vision Consulting Ltd, 3-C, LDA Flats, Lawrence Road, Lahore,
- I. Due to current COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) in terms of its Circular No.5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) through its notice Ref: PSX/N- 372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders



while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies. The Company, furthermore, has made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. For this, members are required to email their Name, Folio Number, Cell Number and Number of shares held in their name with subject "Registration for Fazal Cloth Mills Limited AGM-21" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at [corporate@fazalcloth.com](mailto:corporate@fazalcloth.com). Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of AGM. Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address [corporate@fazalcloth.com](mailto:corporate@fazalcloth.com).



## **STATEMENT UNDER SECTION 134 (3) OF THE COMPANIES ACT, 2017.**

This statement sets out the material facts pertaining to the special business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company to be held on October 27, 2021.

### **Special Business No.1**

The transactions carried out with associated companies/related parties have been approved by the Board as recommended by the Audit Committee on quarterly basis pursuant to provisions of applicable laws. However, the majority of Directors of the Company were related due to their common directorship and holding of shares in the associated companies, the Board has recommended the same for placement before the shareholders of the Company in general meeting for ratification/approval.

All these related party transactions during the mentioned period were executed at Arm's Length Price in a fair and transparent manner and there was no departure from the guidelines mentioned in Code of Corporate Governance for such transactions and Companies Act, 2017. Pursuant to the above, these transactions have to be approved/ratified by the shareholders in the General Meeting. The directors and their relatives have no direct or indirect interest in the aforesaid business except to the extent of their shareholding/common directorship with the related parties.

### **Special Business No.2**

Due to composition of Board of Directors of the Company, many Directors may be deemed to be treated as interested in transactions with related parties due to their common directorships and/or shareholding. Therefore, the shareholders are being approached to grant a broad and prior approval for such transactions to be entered into by the Company, from time to time, at the discretion of the Board and irrespective of its composition and interest of directors due to their common directorship and holding of shares in the associated companies/related parties, triggering approval of shareholders under section 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017, for the year ending June 30, 2021, which transactions shall be deemed to be approved by the shareholders. The Company shall ensure that such transactions with related parties, if needed, continue to be carried out in a fair and transparent manner and at Arm's Length Basis. Transactions intended to be carried out by the Company include, but are not limited to, sale and purchase of stores and spares, shared expenses, toll manufacturing, sale and purchase of products/raw material and purchase of packaging material with the related parties. The shareholders would appreciate that it is not possible for the Company or the directors to accurately predict the nature of related party transaction or the specific related party(ies) with which the transaction(s) shall be carried out. In view of the same, the Company seeks the broad/ prior approval of the shareholders that the Board may cause the Company to enter into related party transactions in its discretion and in accordance with policy of the Company. Such transactions shall be presented in the next annual general meeting of shareholders for their formal approval/ratification.

### **Special Business No.3**

Fatima Transmission Company Limited ('FTCL'), an associated company, was incorporated in Pakistan on December 26, 2014 as a public limited company under the repealed Companies Ordinance, 1984 (now Companies Act, 2017). The principal activity of FTCL includes operation and maintenance of transmission lines, electrical transmission facilities, electrical circuits, transformers and sub-stations and the movement & delivery of electric power..



The members of the Company passed a special resolution in the annual general meeting held on October 31, 2015 for investment in the form of loans in FTCL upto Rs 300 million to be repaid within one year of disbursement.

Subsequently, the members of the Company passed another special resolution in the annual general meeting held on October 26, 2019 and extended the tenure from one year to ten years and approved the repayment schedule whereby the repayment was allowed in 20 semiannual installments with first installment due on 30 June or 31 December next falling after Commercial Operation Date. The investment was to be made till October 15, 2021. As of June 30, 2021 an amount of PKR 112,019,033 has been disbursed to associated company and markup of Rs 28,308,810 has been charged thereon.

There has been delay in start of commercial operations of FTCL which are now expected to commence on December 31, 2021. Approval from the members is being sought by passing special resolution for extension in period for making investment till October 15, 2024 and repayment through annual instalments starting from December 31, 2026 ensuring repayment with in ten years of disbursal as detailed hereinabove.

The directors of the Company have no shareholding in FTCL except one common director Mr. Rehman Naseem who hold one share. There is no other interest directly or indirectly of the directors in FTCL and the above special resolution.



**Statement u/s 4 (2) of Investment in associated companies' regulations 2017**

Name of Investee Company	Fatima Transmission Company Limited (FTCL)		Fatima Energy Limited (FEL)	
<b>Total investment approved</b>	Rs. 300,000,000 loan was approved in AGM on October 31, 2015 and will be repayable within ten year from date of disbursal. Period of Investment till Oct 15.2021.	The approval from shareholders to enter into SSA obtained in Annual General meeting of the Company held on October 31, 2016. As per SSA the Company as sponsor commits the NIB, in case of default by FTCL, to pay amount outstanding. Further, terms and conditions with FTCL in case of fulfillment of such guarantee were approved by the shareholders on March 25, 2017.	The approval from shareholders to enter into SSA obtained in EOGM of the Company held on May 30, 2017. As per SSA the Company as sponsor commits to lenders of FEL, in case of default by FEL, to pay amount outstanding up to Rs 9028 million. In AGM dated November 26, 2020 shareholders approved reduction in investment from Rs 9028 million to Rs 6000 million.	Rs. 500,000,000 loan investment was approved in AGM on Nov 26, 2020 with period of investment till Oct 15, 2023.
<b>Amount of investment made to date</b>	Rs 112,019,033	NIL	Rs 400 M	Rs 238,740,522
<b>Reasons for not having made complete investment so far where resolution required it to be implemented</b>	Further funds request has not yet been made by the investee company.	Outstanding amount to NIB on behalf of FTCL will be paid in case of default by FTCL or in case any demand by lender of FTCL under SSA .	Outstanding amount to Lenders on behalf of FEL will be paid in case of default by FEL or in case any demand by lender of FEL under SSA .	Further investment will be made depending on demand received from investee company



in specific time			
Material change in financial statements of associated company or associated undertaking since date of the resolution passed for approval of investment in such company.	<b><u>As at June 30, 2015</u></b>	<b><u>As at June 30, 2016</u></b>	<b><u>As at June 30, 2016</u></b>
	Earning per share (EPS) was Rs (8.78) / share	Earning per share (EPS) was Rs (147.9) / share	Earning per share (EPS) was Rs (0.082) / share
	Breakup value per share (B/E) was Rs 1.22 /share	Breakup value per share (B/E) was Rs 3,536 /share	Breakup value per share (B/E) was Rs 9.8 /share
	<b><u>As at June 30, 2020</u></b>	<b><u>As at June 30, 2020</u></b>	<b><u>As at June 30, 2020</u></b>
EPS: Rs (4.06)/share	EPS: Rs (4.06)/share	EPS: Rs (1.19)/share	
B/E: Rs 0.65 /share	B/E: Rs 0.65 /share	B/E: Rs 7.72 /share	





# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED



56ویں سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس۔

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی میسرز فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ ('کمپنی') کے حصص یافتگان کا 56واں سالانہ اجلاس عام۔ 27 اکتوبر 2021 صبح 11 بجے ایف جی ہیڈ آفس، ای / 110، خیابان ای جناح، ڈیفنس چوک لاہور میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

الف- عمومی کاروبار۔

1. 26 نومبر 2020 کو منعقدہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کے کاروبار کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس وصول کرنے ان پر غور کرنے اور اپنانے کے لئے۔
3. مالی سال برائے اختتام 30 جون 2021 کے لیے فائنل کیش ڈیوڈنڈ برائے دس روپے فی حصص کی منظوری جو کہ عبوری ڈیوڈنڈ برائے بیس روپے فی حصص کے علاوہ ہے۔
4. 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کی تقرری اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔
5. چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے کاروبار میں لین دین کرنا۔

ب- خصوصی کاروبار۔

1. کمپنی کے متعلقہ فریقوں کے ساتھ 30 جون، 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال میں لین دین اور اسکی مالی حسابات میں ظاہر کرنے کی توثیق اور منظوری کے لئے ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر قرارداد پاس کرنا۔
- قراریا یہ ہے کہ مالی سال برائے اختتام 30 جون 2021 کے دوران متعلقہ پارٹیز سے لین دین جیسا کہ مالی حسابات کے نوٹ 45 میں ظاہر کیا گیا ہے کی تصدیق اور منظوری کی جاتی ہے۔

Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan.

Ph: +92 061 4579001-7, +92-61-4782796, +92-61-4573339-8, Fax: +92-061-4541832

E-mail: info@fazalcloth.com, Website: www.fazalcloth.com

Registered Office: 69/7, Abid Majeed Road, Survey # 248/7, Lahore Cantt, Ph: +92 042-36684909





# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED



2. متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل سے قطع نظر ، وقتاً فوقتاً پارٹی سے متعلق اس طرح کے لین دین کو انجام دینے کے لئے کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اختیار دینا۔

قرار پایا ہے کہ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران معاملات کی بنیاد پر متعلقہ فریقوں کے ساتھ ہونے والے لین دین کی منظوری کے مجاز ہیں۔۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کے ذریعہ منظور شدہ ان لین دین کو حصص یافتگان کے ذریعہ منظور شدہ سمجھا جائے گا اور اگلے جنرل اجلاس میں حصص یافتگان کے سامنے ان کی باضابطہ توثیق / منظوری کے لئے رکھا جائے گا جہاں ضرورت ہو۔

3. اوراگرغور کرنا مناسب سمجھا جائے تو ، کمپنی ایکٹ ، 2017 کے سیکشن 199 کے مطابق ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم کے خصوصی قرارداد کے طور پر مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی جائے تاکہ سرمایہ کاری سے منسلک شرائط و ضوابط کو تبدیل کیا جا سکے۔ فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ کی طرف سے فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ میں قرض دینے کے دورانیہ کو بڑھایا جائے۔

قرار پایا ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے قانون 199 کے تحت فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کمپنی کی ایسوسی ایٹ کمپنی میسرز فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ میں قرضہ دینے کے دورانیہ کی مدت جو کہ اکتوبر 15، 2021 ہے اور جس کی اجازت اکتوبر 2019 26، میں حصص یافتگان نے سالانہ اجلاس عام میں دی تھی ، میں اکتوبر 15، 2024 تک توسیع کی منظوری دی جاتی ہے۔

قرار پایا ہے کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے قانون 199 کے تحت فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کمپنی کی ایسوسی ایٹ کمپنی میسرز فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ کو دیئے جانے والے قرض کی واپسی کی شرط جو کہ حصص یافتگان کے سالانہ اجلاس عام بتاریخ اکتوبر 26، 2019 میں منظور کی گئی تھی تبدیل کی جاتی ہے ، لہذا قرض کی واپسی چار سالانہ اقساط 31 دسمبر 2026 ، 31 دسمبر 2027 ، 31 دسمبر 2028 اور 31 دسمبر 2029 ، میں ہوگی۔

Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan.

Ph: +92 061 4579001-7, +92-61-4782796, +92-61-4573339-8, Fax: +92-061-4541832

E-mail: info@fazalcloth.com, Website: www.fazalcloth.com

Registered Office: 69/7, Abid Majeed Road, Survey # 248/7, Lahore Cantt, Ph: +92 042-36684909





# FAZAL CLOTH MILLS LIMITED



قرار پایا ہے کہ قرض پر منافع بھی چار سالانہ اقساط 31 دسمبر 2026 ، 31 دسمبر ، 2027 ، 31 دسمبر ، 2028 اور 31 دسمبر ، 2029 میں اصل زر کے ساتھ وصول کیا جائے گا اور قرض کو فاطمہ ٹرانسمیشن لمیٹڈز کے ڈائریکٹرز کی ذاتی گارنٹی کے ساتھ محفوظ بنایا جائے گا۔ مزید قرار پایا کہ مذکورہ سرمایہ کاری کے دیگر شرائط و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جیسا کہ 26 اکتوبر 2019 کی خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کیا گیا ہے۔

مزید قرار پایا ہے کہ چیف ایگزیکٹو ، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری اس سے متعلقہ تمام کام ، معاملات ، اعمال معاہدے پر دستخط اور چیزیں کرنے کے لیے بااختیار اور مجاز ہوں گے ، اور اس پر عمل درآمد کے مقصد کے لیے ضروری دستاویزات کی فائلنگ سمیت تمام قانونی رسومات کو مکمل کرنے کے بھی مجاز ہوں گے۔

مذکورہ سالانہ جنرل میٹنگ میں مذکورہ بالا خصوصی کاروباروں کے لئے کمپنیوں کے ایکٹ ، 2017 کی دفعہ 134 (3) کے تحت ایک بیان منسلک ہے۔۔

بورڈ کے حکم سے -

اسد مصطفیٰ -

ملتان

کمپنی سیکریٹری -

تاریخ: 05 اکتوبر ، 2021۔۔

Head Office: 59/3, Abdali Road, Multan.

Ph: +92 061 4579001-7, +92-61-4782796, +92-61-4573339-8, Fax: +92-061-4541832

E-mail: info@fazalcloth.com, Website: www.fazalcloth.com

Registered Office: 69/7, Abid Majeed Road, Survey # 248/7, Lahore Cantt, Ph: +92 042-36684909



## نوٹ

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابچہ 21 اکتوبر 2021 سے 27 اکتوبر 2021 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ حصص کی منتقلی کے لیے درخواستیں جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار ، ایم / ایس ویژن کنسلٹنگ لمیٹڈ ، C-3 ، ایل ڈی اے فلیٹس ، لارنس روڈ ، لاہور ، کو 20 اکتوبر 2021 تک کاروبار کے اختتام پر مذکورہ بالا حق کے مقصد اور اجلاس میں شرکت کے لئے وصول ہوں گی حصص یافتگان کے ووٹنگ کے حقوق کا تعین کرنے کے لئے تسلیم کی جائیں گی۔

2. اس میٹنگ میں شرکت ، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ممبر کسی دوسرے ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے اور سی ڈی سی کے حصص یافتگان اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / پاسپورٹ ، اکاؤنٹ اور شریک کے شناختی نمبر کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں گے۔ شناخت ثابت کرنے کے لئے اور پراکسیوں کو موثر ہونے کے لیے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے پہنچنا چاہئے اور اس پر لازمی طور پر دستخط اور گواہ کے دستخط ہونا ضروری ہے۔۔ کارپوریٹ ممبروں کے نمائندوں کو لازمی طور پر بی او ڈی ریزولوشن اور / یا پاور آف اٹارنی اور نامزد شخص کے نمونہ دستخط لائیں۔۔

3. کمپنی سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ان پر آڈیٹر کے رپورٹ ، سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گی: [www.fazalcloth.com](http://www.fazalcloth.com) جو سالانہ جنرل اجلاس کی تاریخ سے کم از کم اکیس (21) دن پہلے ہو گا۔۔ مزید یہ بھی بتانا ہے کہ ایس آر او (I)/2016)470 بتاریخ 31 مئی 2016 کے ذریعے ایس ای سی پی نے کمپنیوں کو سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو اپنے ممبروں کو سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی کے ذریعے پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ ان کے رجسٹرڈ پتے پر اس کے مطابق ، 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ حصص یافتگان کو سی ڈی کے ذریعے روانہ کی جاتی ہے۔ تاہم ، اگر کوئی حصص یافتگان سالانہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی کے لئے درخواست کرتا ہے تو درخواست موصول ہونے کے سات دن کے اندر اسے مفت فراہم کیا جائے گا۔۔ مزید یہ کہ 8 ستمبر 2014 کو ایس آر او نمبر 787 (I) / 2014) کی شرائط میں ، حصص یافتگان سالانہ نوٹس کے ساتھ سالانہ بیلنس شیٹ اور منافع اور نقصان کا اکاؤنٹ ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ ای میل سے حاصل کرنے کا بھی انتخاب کرسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم آپ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ درست ای میل ID کے ساتھ اپنی تحریری درخواست ہمیں بھیجیں تاکہ آپ کو آپ کی درست ای میل ID پر بھی وہی فراہم کیا جاسکے۔ حصص یافتگان کی سہولت کے



لئے ، سالانہ اکاؤنٹس کی فراہمی کے لئے ایک معیاری درخواست فارم بھی کمپنی کی ویب سائٹ [www.fazalcloth.com](http://www.fazalcloth.com) پر دستیاب کرایا گیا ہے ۔

4. حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ سی ڈی ایس شرکاء کو سی ڈی ایس میں کتاب انٹری سیکیورٹیز کی صورت میں اور ہمارے شیئر رجسٹرار کو جسمانی حصص کی صورت میں ، اگر پہلے فراہم کردہ / مطلع نہ ہوں تو ، درج ذیل معلومات اور دستاویزات کو مطلع / جمع کروائیں ۔

a. ان کے پتے میں تبدیلی کریں ۔

b. کمپنی ایکٹ ، 2017 اور کمپنیوں (منافع کی تقسیم) ریگولیشن 2017 کی دفعہ 242 کی دفعات کے مطابق ، کسی درج کمپنی کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے حصص یافتگان کو صرف الیکٹرانک موڈ کے ذریعہ بینک اکاؤنٹ میں براہ راست نقد ڈیوڈنڈ ادا کرے ۔ لہذا حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ جسمانی حصص یافتگان کی صورت میں براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو نام ، فولیو نمبر ، بینک اکاؤنٹ نمبر ، آئی بی اے این نمبر ، اکاؤنٹ کا عنوان اور بینک کا مکمل میلنگ ایڈریس سے متعلق تفصیلات فراہم کریں ۔ / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس مستقبل کے منافع کے لئے سنٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کو مندرجہ بالا معلومات فراہم کریں ،

c سی ڈی سی اکاؤنٹس رکھنے والے کارپوریٹ حصص یافتگان کو اپنے قومی ٹیکس نمبر (NTNs) کو اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ، جبکہ کارپوریٹ جسمانی حصص یافتگان کو اپنے NTN سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار کو بھیجنی چاہئے ۔

d. کسی بھی سوال / معلومات کے لیے حصص یافتگان مذکورہ ہیڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری اور / یا شیئر رجسٹرار ، وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ ، C-3 ، ایل ڈی اے فلیٹس ، لارنس روڈ ، لاہور ، پی ایچ نمبر پر مسٹر عبدالغفار غفاری سے رابطہ کرسکتے ہیں ۔ (042) 97-36283096 ۔

E. کمپنیز ایکٹ ، 2017 کی دفعات کے مطابق ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے لئے کسی شہر میں رہائش پذیر اور کم سے کم 10 فیصد حصص رکھنے والے حصص یافتگان کمپنی سے اجلاس میں حصہ لینے کے لئے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرسکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کی سہولت کا مطالبہ شیئر رجسٹرار کے ذریعہ مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے دیئے گئے پتے پر وصول کیا جائے گا۔



میں/ہم ، \_\_\_\_\_ رہائشی \_\_\_\_\_ بحثیت حصص یافتگان فضل کلاتھ ملز لمیٹیڈز  
ہولڈر آف \_\_\_\_\_ شیرز فولیو نمبر \_\_\_\_\_ ویڈیو کانفرنس کی سہولت  
چاہتے ہیں

f. زکوٰۃ اعلامیہ -

کمپنی کے ممبروں کو زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس ، 1980 کی شرائط میں زکوٰۃ چھوٹ کے لئے اعلامیہ پیش  
کرنا ہوگا۔۔

G. ای ووٹنگ

حصص یافتگان کمپنی ایکٹ ، 2017 کی دفعہ 143-145 اور کمپنیوں کی قابل اطلاق شقوں (پوسٹل  
بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی روشنی میں رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

h. غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور بونس حصص -

حصص یافتگان ، جو کسی بھی وجہ سے ، اپنے منافع یا بونس حصص کا دعویٰ نہیں کرسکتے ہیں یا  
اپنے جسمانی حصص جمع نہیں کرتے ہیں ، اگر کوئی ہے تو ، ہمارے شیئر رجسٹرار ایم / ایس سے  
وژن کنسلٹنگ لمیٹڈ ، C-3 ، ایل ڈی اے فلیٹس ، لارنس روڈ ، لاہور سے رابطہ کرنے کا مشورہ  
دیا جاتا ہے۔

I. موجودہ COVID-19 صورتحال کی وجہ سے ، حکومت نے ایک جگہ پر بڑے عوامی اجتماعات  
معطل کردیئے ہیں۔۔ مزید برآں ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے  
17 مارچ 2020 کو جاری کردہ 2020 کے سرکلر نمبر 5 اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (پی ایس  
ایکس) کے ذریعہ اپنے نوٹس کے ذریعے ریف: پی ایس ایکس / این - 372 مورخہ 19 مارچ ، 2020 نے  
کمپنیوں کو بڑے حصص یافتگان اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لئے عمومی اجلاسوں کے  
لئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ترمیم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔۔ ایس ای سی پی کی ہدایت پر غور  
کرتے ہوئے ، کمپنی کورم کی ضروریات کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے حصص یافتگان کی کم سے کم  
جسمانی تعامل کے ساتھ اس اے جی ایم کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ممبروں سے درخواست  
کرتی ہے کہ وہ پراکسیوں کے ذریعہ اے جی ایم میں اپنی حاضری اور ووٹنگ کو شامل کریں۔۔ مزید  
برآں ، کمپنی نے یہ یقینی بنانے کے انتظامات کیے ہیں کہ حصص یافتگان سمیت تمام شرکاء اب ویڈیو  
لنک کے ذریعے اے جی ایم کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔۔ اس کے لیے ممبروں کو کمپیوٹرائزڈ



نیشنل شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ ، "فضل کلاتھ ملز لمیٹڈ اے جی ایم - 21" کے عنوان سے ان کے نام پر رکھے گئے اپنے نام ، فولیو نمبر ، سیل نمبر اور حصص کی تعداد ای میل کرنے کی ضرورت ہے۔) [Corporate@fazalcloth.com](mailto:Corporate@fazalcloth.com) پر۔۔ ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان ممبروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز ، جس میں تمام مطلوبہ تفصیلات شامل ہیں ، AGM کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہوتی ہیں۔ حصص یافتگان ای میل ایڈریس [Corporate@fazalcloth.com](mailto:Corporate@fazalcloth.com) پر AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔۔

زانکم ٹیکس 2001 کے قانون 150 کے تحت فائلر اور نان فائلر ڈیوڈنڈ پر ٹیکس کاٹنے کا ریٹ بالترتیب 15 فیصد اور 30 فیصد ہے لہذا شیئرز بولڈرز اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں 20 اکتوبر 2021 تک شامل ہو جائیں۔

### کمپنیوں ایکٹ ، 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت بیانات -

یہ بیان 27 اکتوبر 2021 کو ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں لین دین کے لیے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق بیان کرتا ہے۔

### 1۔ خصوصی کاروبار نمبر

متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ مالی سال 2020-2021 میں لین دین کو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر قوانین کی روشنی میں منظور کیا ہے۔

چونکہ متعلقہ کمپنیوں میں اکڑ ڈائریکٹرز مشترکہ ہیں لہذا بورڈ نے اس لین دین کو حصص یافتگان کے سامنے سالانہ اجلاس عام میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ لین دین شفاف طریقہ سے مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے تھا اور قوانین سے منحرف نہ تھا۔ لہذا حصص یافتگان سے اس لین دین کی منظوری مقصود ہے۔

ڈائریکٹرز اور ان کے رشتہ دار متعلقہ کمپنیوں میں مشترکہ ڈائریکٹرز شپ کے علاوہ کوئی اور دلچسپی نہیں رکھتے۔

## 2- خصوصی کاروبار نمبر

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی وجہ سے ، بہت سے ڈائریکٹرز کو مشترکہ ڈائریکٹر شپ اور/یا شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین میں دلچسپی سمجھا جا سکتا ہے۔ لہذا ، شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے لین دین کے لیے وسیع اور پیشگی منظوری دے ، بورڈ کی صوابدید پر اور اس کی تشکیل اور ڈائریکٹر کی دلچسپی سے قطع نظر اور متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں میں حصص کا انعقاد ، 30 جون 2022 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنیز ایکٹ ، 2017 کے سیکشن 207 اور / یا 208 کے تحت حصص یافتگان کی منظوری سمجھا جائے گا۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ متعلقہ فریقوں کے ساتھ اس طرح کے لین دین ، اگر ضرورت ہو تو ، منصفانہ اور شفاف انداز میں اور مارکیٹ ریٹ کی بنیاد پر جاری رہے۔ لین دین جس کا مقصد کمپنی کی طرف سے انجام دیا جانا شامل ہے ، لیکن اسٹورز اور اسپینرز کی فروخت اور خریداری ، مشترکہ اخراجات ، ٹول مینوفیکچرنگ ، مصنوعات/خام مال کی فروخت اور خریداری اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ پیکیجنگ میٹریل کی خریداری تک محدود نہیں ہیں۔ شیئر ہولڈرز اس بات کو سمجھے گے کہ کمپنی یا ڈائریکٹرز کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ متعلقہ پارٹی لین دین یا مخصوص متعلقہ فریق کی نوعیت کی درست پیشن گوئی کریں جس کے ساتھ لین دین کیا جائے گا۔ اسی کے پیش نظر ، کمپنی شیئر ہولڈرز کی وسیع / پیشگی منظوری چاہتی ہے کہ بورڈ کمپنی کو اپنی صوابدید اور کمپنی کی پالیسی کے مطابق متعلقہ پارٹی لین دین میں داخل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح کے لین دین شیئر ہولڈرز کی اگلی سالانہ جنرل میٹنگ میں ان کی رسمی منظوری/توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے۔

## 3. خصوصی کاروبار نمبر

فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ ('FTCL') ، ایک وابستہ کمپنی ، پاکستان میں 26 دسمبر 2014 کو منسوخ شدہ کمپنیز آرڈیننس ، 1984 (اب کمپنیز ایکٹ ، 2017) کے تحت ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر وجود میں آئی۔ ایف ٹی سی ایل کی بنیادی سرگرمی میں ٹرانسمیشن لائنز ، الیکٹریکل ٹرانسمیشن سہولیات ، الیکٹریکل سرکٹس ، ٹرانسفارمرز اور سب اسٹیشن اور بجلی کی نقل و حرکت شامل ہیں۔



کمپنی کے ممبران نے 31 اکتوبر 2015 کو ایف ٹی سی ایل میں قرضوں کی شکل میں سرمایہ کاری کے لیے 300 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری کے لیے ایک خصوصی قرارداد منظور کی جس کے تحت قرض کی واپسی ادائیگی کے ایک سال کے اندر کی جائے گی۔

اس کے بعد ، کمپنی کے ممبران نے 26 اکتوبر 2019 کو ہونے والی سالانہ جنرل میٹنگ میں ایک اور خصوصی قرارداد منظور کی اور قرض کی واپسی کی مدت کو ایک سال سے بڑھا کر دس سال کر دیا اور ادائیگی کے شیڈول کی منظوری دی جس کے تحت 20 ششماہی قسطوں میں ادائیگی کی اجازت دی گئی پہلی قسط کمرشل آپریشن کی تاریخ کے بعد اگلی 30 جون یا 31 دسمبر کو ادا کی جائے۔ سرمایہ کاری کی معیاد 15 اکتوبر 2021 تک کی جانی تھی۔ 30 جون 2021 تک 112,019,033 روپے کی قرض کی سرمایہ کاری کی گئی اور اس پر سود 28,308,810 روپے چارج کیا گیا۔

ایف ٹی سی ایل کے تجارتی آپریشن شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے جو اب 31 دسمبر 2021 کو شروع ہونے کی توقع ہے۔ 15 اکتوبر 2024 تک سرمایہ کاری کرنے اور سالانہ ادائیگی کے لیے مدت میں توسیع کے لیے خصوصی قرارداد منظور کر کے ممبران سے منظوری مانگی جا رہی ہے۔ 31 دسمبر 2026 سے شروع ہونے والی قسطیں ادائیگی کے دس سالوں میں ادائیگی کو یقینی بناتی ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

ایف ٹی سی ایل میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کی کوئی شیئر ہولڈنگ نہیں ہے سوائے ایک مشترکہ ڈائریکٹر مسٹر رحمان نسیم کے جو ایک شیئر رکھتے ہیں۔ ایف ٹی سی ایل اور مذکورہ بالا خصوصی قرارداد میں ڈائریکٹرز کا براہ راست یا بالواسطہ کوئی دوسرا مفاد نہیں ہے۔

#### متعلقہ کمپنیوں کے ضوابط 2017 میں سرمایہ کاری کا بیان 2/4

فاطمہ انرجی لمیٹڈ (ایف ای ایل)		فاطمہ ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ (ایف ٹی سی ایل)		سرمایہ کار کمپنی کا نام۔
روپے 26 نومبر 2020 کو اے جی ایم میں 500 ملین روپے قرض کی سرمایہ کاری کی منظوری دی	شیئر ہولڈرز کی طرف سے ایس ایس اے میں داخل ہونے کی منظوری 30 مئی 2017 کو کمپنی	شیئر ہولڈرز کی جانب سے ایس ایس اے میں داخل ہونے کی منظوری 31 اکتوبر 2016 کو	روپے 300 ملین قرض 31 اکتوبر 2015 کو AGM میں منظور کیا گیا تھا اور ادائیگی کی تاریخ	کل سرمایہ کاری منظور

<p>گئی جس میں سرمایہ کاری کی مدت 15 اکتوبر 2023 تک تھی۔</p>	<p>کے ای او جی ایم میں حاصل کی گئی۔ ایس ایس اے کے مطابق کمپنی اسپانسر کے طور پر ایف ای ایل کے قرض دہندگان کو ، ایف ای ایل کی طرف سے ڈیفالٹ کی صورت میں 9028 ملین روپے تک بقایا رقم ادا کرنے کے لیے یہ رقم 26 نومبر 2020 کے سالانہ اجلاس عام میں کم کر کے 6000 ملین روپے تک کر دی گئی ہے۔</p>	<p>کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ میں حاصل کی گئی۔ ایس ایس اے کے مطابق کمپنی بطور اسپانسر این آئی بی کو ایف ٹی سی ایل کی طرف سے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں بقایا رقم ادا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ مزید ، ایف ٹی سی ایل کے ساتھ شرائط و ضوابط اس طرح کی گارنٹی کی تکمیل کی صورت میں شیئر ہولڈرز نے 25 مارچ 2017 کو منظوری دی تھی۔</p>	<p>سے دس سال کے اندر ادائیگی کی جائے گی۔ سرمایہ کاری کی مدت اکتوبر 15.2021 تک۔</p>	
<p>238,740,522 روپے</p>	<p>400 ملین</p>	<p>کوئی نہیں</p>	<p>112,019,033 روپے</p>	<p>آج تک کی گئی سرمایہ کاری کی رقم</p>
<p>مزید سرمایہ کاری سرمایہ کار کمپنی سے موصول ہونے</p>	<p>ایف ای ایل کی جانب سے قرض دہندگان کو بقایا</p>	<p>ایف ٹی سی ایل کی جانب سے این آئی بی کو بقایا</p>	<p>مزید سرمایہ کاری کی درخواست ابھی تک سرمایہ</p>	<p>اب تک مکمل سرمایہ کاری نہ کرنے کی</p>



<p>والی مانگ کے مطابق کی جائے گی۔</p>	<p>رقم FEL کی طرف سے ڈیفالٹ کی صورت میں یا ایس ایس اے کے تحت ایف ای ایل کے قرض دہندہ کی طرف سے کوئی مطالبہ کی صورت میں ادا کی جائے گی۔</p>	<p>رقم ایف ٹی سی ایل کی طرف سے ڈیفالٹ کی صورت میں یا ایس ایس اے کے تحت ایف ٹی سی ایل کے قرض دہندہ کی طرف سے کوئی مطالبہ کی صورت میں ادا کی جائے گی</p>	<p>کار کمپنی نے نہیں کی ہے۔</p>	<p>وجوہات جہاں ریزولوشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے مخصوص وقت میں لاگو کیا جائے۔</p>
<p>30 جون 2016 کو ختم ہونے والے مالی حسابات کے مطابق ، فی حصص آمدنی روپے تھی - (0.082) / شیئر بریک اپ کی قیمت 9.8 روپے / شیئر تھی 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے دستیاب آڈٹ شدہ مالی حسابات کے مطابق ، فی حصص آمدنی (1.19) روپے ہے۔ اور حصص کی بریک اپ قیمت 7.72 روپے فی شیئر ہے۔</p>	<p>30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالی بیانات کے مطابق ، فی حصص آمدنی روپے (8.78) تھی اور حصص کی بریک اپ قیمت 1.22 روپے تھی 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے دستیاب آڈٹ شدہ مالی حسابات کے مطابق ، فی حصص آمدنی (4.06) روپے ہے۔ اور حصص کی بریک اپ قیمت 0.65 روپے ہے۔</p>	<p>ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے منظور کی گئی قرارداد کی تاریخ کے بعد سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ کمپنی کے مالی بیانات میں مادی تبدیلی۔</p>	<p>30 جون 2015 کو ختم ہونے والے سال کے آڈٹ شدہ مالی بیانات کے مطابق ، فی حصص آمدنی روپے (8.78) تھی اور حصص کی بریک اپ قیمت 1.22 روپے تھی 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے دستیاب آڈٹ شدہ مالی حسابات کے مطابق ، فی حصص آمدنی (4.06) روپے ہے۔ اور حصص کی بریک اپ قیمت 0.65 روپے ہے۔</p>	<p>ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی منظوری کے لیے منظور کی گئی قرارداد کی تاریخ کے بعد سے متعلقہ کمپنی یا اس سے وابستہ کمپنی کے مالی بیانات میں مادی تبدیلی۔</p>